

41730- کیا بیوی کوچ کرانا خاوند کے ذمہ ہے؟

سوال

میری بیوی نے فرضی حج نہیں کیا، تو کیا اسے حج کرانا مجھ پر واجب ہے، اور کیا اس کے حج کا خرچ مجھ پر لازم ہے؟

پسندیدہ جواب

اگر تو بیوی نے عقد نکاح میں حج کرانے کی شرط رکھی تھی تو اس شرط کو پورا کرتے ہوئے اسے حج کرانا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے:

”وہ شرطیں سب سے زیادہ پورا کرنے کا حق رکھتی ہیں جن کے ساتھ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا“

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اے ایمان والو! اپنے عہد و پیمانے پورے کرو﴾۔ المائدہ (1).

اور ایک مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿اور اپنے معاہدے پورے کرو کیونکہ عہد کے متعلق باز پرس ہوگی﴾۔ الاسراء (34).

لیکن اگر عقد نکاح میں شرط نہیں رکھی گئی تو پھر اسے حج کرانا لازم نہیں، لیکن میں اسے یہ اشارہ کسنا چاہتا ہوں کہ وہ اسے چند ایک امور کی بنا پر حج کروادے:

اول:

اجرو ثواب کے حصول کی خاطر اسے حج کروانے، کیونکہ اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کی بیوی کو حاصل ہوگا، اور وہ فرضی حج بھی کر لے گی.

دوم:

ایسا کرنے سے ان دونوں کے مابین محبت
والفط پیدا ہوگی، اور جس چیز کے ذریعہ بھی خاوند اور بیوی کے مابین محبت پیدا
ہوتی ہو شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔

سوم:

اس کے اس عمل کی مدح و ثنا ہوگی اور
اس عمل میں اس کی اقتدا و پیروی کی جائیگی۔

چنانچہ اسے اللہ کی مدد حاصل کرتے
ہوئے بیوی کو حج کروانا چاہیے چاہے اس نے عقد نکاح میں شرط رکھی ہے یا نہیں، لیکن
اگر عقد نکاح میں شرط رکھی گئی ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ انتہی۔